

## Ūi Kok Kító

(Asah ê si.)

- 1 SiōngChú ah, liát pang chhimjip Lí ê sángiáp;  
in ùè Lí ê sèngtiān,  
koh hō Êlúsalem chiá<sup>n</sup>chò hèehi.
- 2 In kā Lí ê pòkjîn ê sinsi kau hō khongtióng ê  
poechiáu chò chiáhmih,  
kā Lí ê sèng bîn ê bah kau hō tēchiū<sup>n</sup> ê iásiù.
- 3 In tī Êlúsalem sùu, lâu Lí ê chúbîn ê hoeh  
chhinchhiū<sup>n</sup> teh pià<sup>n</sup> chúí,  
m̄ koh bô lâng thang kā in bâichòng.
- 4 Goán siū lîn kok bújiók,  
koh hō sùu ê lâng sauchiò kah kichhì.
- 5 SiōngChú ah, Lí ê siūkhì beh kàu tī tangsî? Kám ē  
kàu éngoán?  
Lí ê lōkhì ē chhinchhiū<sup>n</sup> hóc koh tòh gōa kú?
- 6 Goān Lí kā Lí ê lōkhì pià<sup>n</sup> tī hiahê m̄ bat Lí ê liát  
pang,  
kah hiahê bô kiùkiò Lí ê miá ê koktō.
- 7 Inūi in thunchiáh lâkop,  
koh hō i khiākhí ê sóchāi phahng.
- 8 Kiú Lí m̄ thang kì tiāutiāu goán chósian ê  
chōegiát;  
goān Lí ê chūpi kínkín lîmkàu goán,  
inūi goán pekchhiat suiàu pangchān.
- 9 Kiù goán ê SiōngChú ah, kiú Lí inūi Lí ê miá ê  
êngkng pangchān goán!

## 為國祈禱

(亞撒 ê 詩。)

- 1 上主 ah, 列邦侵入祢 ê 產業;  
in 污穢祢 ê 聖殿,  
koh hō 耶路撒冷成做廢墟。
- 2 In kā 祢 ê 僕人 ê 身屍交 hō 空中 ê 飛鳥做食  
物,  
kā 祢 ê 聖民 ê 肉交 hō 地上 ê 野獸。
- 3 In tī 耶路撒冷四圍, 流祢 ê 子民 ê 血親像 teh  
pià<sup>n</sup> 水,  
m̄ koh 無人 thang kā in 埋葬。
- 4 阮受鄰國侮辱,  
koh hō 四圍 ê 人嘲笑 kah 譏刺。
- 5 上主 ah, 祢 ê 受氣 beh 到 tī tang 時? Kám ē  
到永遠?  
祢 ê 怒氣 ē 親像火 koh tòh gōa 久?
- 6 願祢 kā 祢 ê 怒氣 pià<sup>n</sup> tī hiahê m̄ bat 祢 ê 列  
邦,  
kah hiahê 無求叫祢 ê 名 ê 國度。
- 7 因為 in 吞食雅各,  
koh hō 伊 khiā 起 ê 所在拋荒。
- 8 求祢 m̄ thang 記 tiāutiāu 阮祖先 ê 罪孽;  
願祢 ê 慈悲緊緊臨到阮,  
因為阮迫切需要幫贊。
- 9 救阮 ê 上主 ah, 求祢因為祢 ê 名 ê 榮光幫贊  
阮!  
因為祢 ê 名 ê 緣故, 拯救阮, 赦免阮 ê 罪。

Inūi Lí ê miâ ê iânkò, chínkiù goán, siàbián goán ê chōe.

10 Liát pang ná ē kóng,

"In ê SiōngChú tī tóūi?"

Kiū Lí tī goán ê bákchui chêng hō liát pang chai,

Lí íkeng ūi Lí ê pòkjin só lâu ê hoeh sinoan.

11 Goān pī koai<sup>n</sup>ka<sup>n</sup> ê lāng ê aithàn tátkau Lí ê bīnchêng;

goān Lí chiàu Lí ê tōa koānlêng liūchūn hiahê síhêng hoān ê sè<sup>n</sup>miā.

12 Chú ah, goān Lí kā goán ê lín kok tui Lí ê bújiók,

kethi<sup>n</sup> chhit pōe kui tī in ê sinchiū<sup>n</sup>.

13 Ánne, chiā<sup>n</sup>chò Lí ê chúbîn, Lí ê chháutiū<sup>n</sup> ê iū<sup>n</sup> ê goán,

beh éngoán kámsiā Lí;

beh oló Lí ê miâ titkau bān sètāi.

10 列邦 ná ē 講：

「In ê 上主 tī tó 位？」

求祢 tī 阮 ê 目 chiu 前 hō 列邦知，

祢已經為祢 ê 僕人所流 ê 血申冤。

11 願被關監 ê 人 ê 哀歎達到祢 ê 面前；

願祢照祢 ê 大權能留存 hiahê 死刑犯 ê 性命。

12 主 ah，願祢 kā 阮 ê 鄰國對祢 ê 侮辱，

加添七倍歸 tī in ê 身上。

13 Ánne，成做祢 ê 子民，祢 ê 草場 ê 羊 ê 阮，

beh 永遠感謝祢；

beh oló 祢 ê 名直到萬世代。